

جب تک آپ انتظار کر رہے ہیں

وسیلہ کے حقائق

مجھے اور کون سے وسائل دستیاب ہیں؟

جب اپنی وزارت کی مالی امداد کی خدمات حاصل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں، تو اس دوران آپ دوسرے مقامی کمیونٹی وسائل، پروگراموں اور سرگرمیوں کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اپنے مقامی تفریحی مرکز، نجی تفریح فراہم کرنے والوں، سینینٹروں کے مراکز اور غیر منافع بخش تنظیموں سے منسلک ہونے کی کوشش کریں جو خصوصی ضروریات اور سینینٹروں کے ساتھ بالغوں کے لئے مختلف پروگرام اور سرگرمیاں پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے پروگرام تمام شرکاء کے دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو پورا کرنے کیلئے تیار کئے گئے ہیں۔

پروگرام کہاں تلاش کرنا چاہئے

ذیل میں لکھے کچھ طریقوں سے، آپ ایسا تفریحی پروگرام تلاش کر سکتے ہیں جو آپکی ضروریات پوری کر سکے:

- مقامی میونسپل پارکوں، کمیونٹی اور غیر منافع بخش تنظیموں، میں ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔
- بالغوں کیلئے مسلسل تعلیمی کلاسیز اور تفریحی ہدایت نامے تلاش کریں۔
- اپنے خاندان والوں اور دوستوں سے معلوم کریں کہ کمیونٹی میں کون سی سرگرمیاں دستیاب ہیں۔
- اپنی کمیونٹی میں معلوماتی میلوں اور خصوصی تقریبات کی تلاش کریں۔
- اگر آپ سینینٹر ہیں تو، اپنے مقامی سینینٹر سے رابطہ کریں۔
- 211 اونٹاریو۔

یہ دیکھنے کے لئے کہ آیا پروگرام آپ کیلئے مناسب ہے یا نہیں، اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھیں۔

- مجھے کامیاب ہونے کیلئے کس قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی؟
- ماضی کی کچھ وہ سرگرمیاں جنکو کرنے میں مجھے لطف آیا تھا؟
- میں ہمیشہ سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟
- میرے تفریحی مقاصد کیا ہیں؟

پروگرام میں شامل ہونے سے پہلے، یہ دیکھنے کیلئے کہ پروگرام آپ کی ضروریات کے مطابق ہے یا نہیں، پروگرام کو آرڈینینٹر سے یہ سوالات پوچھیں۔

- پروگرام کا فلسفہ کیا ہے؟
- شرکاء کی ضمانت اور حفاظت کو، پروگرام کس طرح یقینی بناتا ہے؟

تجاویز

- آپکے پروگرام تیزی سے بھرتے ہیں، اسلئے اپنی تلاش جلد شروع کریں!
- پروگرام کی ابتدائی واقفیت میں شریک ہوں یا انسٹرکٹر سے ملاقات کی درخواست کریں۔
- پروگرام کے آغاز کیلئے اپنے آپ کو تیار کریں (سازوسامان اور رسد وغیرہ خریدیں)۔
- میں وہاں کیسے پہنچونگا؟ (ٹرانزٹ کے راستوں کو دیکھیں، مشترکہ سواری تلاش کریں)۔

اپنے بارے میں معلومات کو تازہ کریں

اپنی صورت حال میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں اپنے مقامی ڈی ایس او کو آگاہ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی رہائش یا اپنا فون نمبر تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو، ہمیں کال کریں۔ اس سے ہمیں یقین دہانی ہو جاتی کہ ہمارے پاس آپکی موجودہ معلومات ہیں اور یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ آپ سروس رجسٹری میں رہنا چاہتے ہیں۔

مزید معلومات کی ضرورت ہے؟

مزید معلومات کیلئے ڈویلپمنٹل سروسز اونٹاریو (DSO) کو 211 پر کال کر کے رابطہ کریں یا اپنے علاقے کے ڈی ایس او کو تلاش کرنے کیلئے dsontario.ca کا ملاحظہ کریں۔



ہم سے رجوع فرمائیں!

[dsontario.ca](https://www.dsontario.ca)

نومبر 2018